

قباحتوں سے بچیں اور دفاع صحابہ کے محاذ کے ملکی و بین الاقوامی تقاضوں کو سمجھیں! کیا ہمیں اب اس بات پر غور کرنا چاہیے (بلکہ ضرور کر لینا چاہیے) کہ صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے دس محرم الحرام کو تعلیم القرآن راولپنڈی کے حادثے پر علماء کرام سے جو وعدہ کیا تھا کہ چہلم کا جلوس راجہ بازار سے نہیں گزرے گا لیکن پھر 24 دسمبر کو کیا ہوا؟

آئینہ ایسادوں کہ تماشا کہیں جسے

36 ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس چناب نگر:

جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مجلس احرار اسلام پاکستان کے زیر اہتمام ان شاء اللہ تعالیٰ 12 ربیع الاول 1435ھ جامع مسجد احرار چناب نگر میں 36 ویں سالانہ احرار ختم نبوت کانفرنس قائد احرار حضرت پیر جی سید عطاء اللہ لہسن بخاری مدظلہ العالی کی زیر سرپرستی منعقد ہو رہی ہے اس کانفرنس کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے کے لیے درج ذیل امور کو ملحوظ رکھتے ہوئے تیاریاں تیز کر دیں۔ ☆ کانفرنس کے اشتہارات آپ تک پہنچ چکے ہوں گے اگر ابھی تک اشتہارات نہ ملے ہوں یا آپ کی ضرورت سے کم ہوں تو ملتان مرکز سے رابطہ فرما کر اشتہارات منگوا سکتے ہیں ☆ کانفرنس میں شرکت کے لیے اپنے جماعتی و غیر جماعتی ماحول میں محنت کریں اور انفرادی و اجتماعی شرکت کو یقینی بنائیں نیز کانفرنس اور قافلے کی روادگی کے حوالے سے اخبارات کے مقامی نمائندگان کے ذریعے خبریں بھجوانے کا اہتمام ضرور کریں ☆ ہر مقامی جماعت کے ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ نظم و ضبط کا ماحول پیدا کریں۔ کانفرنس میں شرکت کرنے والے ساتھیوں کی تربیت کریں اور ایک نیک مقصد کے لیے سفر کے آداب کو ہر حال میں ملحوظ رکھیں ☆ دوران سفر کلمہ طیبہ اور درود پاک کا ورد جاری رکھیں ☆ چناب نگر میں بلا ضرورت نہ گھومیں پھریں اور نہ ہی قادیانیوں کے ساتھ بحث کریں ☆ ہر شاخ یا شرکت کرنے والے ساتھی اپنی تعداد کی مناسبت سے پانچ سے دس جماعتی پرچم ساتھ لائیں اور ممکن حد تک تمام ساتھی سرخ قمیص میں ملبوس ہوں ☆ کانفرنس کی مناسبت سے جن شاخوں کے پاس بینرز موجود ہوں وہ ہمراہ لائیں ممکن ہو تو نئے بینرز بنوانے کا اہتمام کریں ☆ تمام ساتھی / قافلے سفر کے دورانیے کا اندازہ کر کے ایسے وقت سفر شروع فرمائیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ 12 ربیع الاول کو نماز فجر تک مرکز چناب نگر پہنچ جائیں اس سے زیادہ تاخیر مناسب نہیں ☆ جن شاخوں کو انتظامات کے لیے کارکن مہیا کرنے کا کہا گیا ہے ان سے درخواست ہے کہ متعینہ کارکنوں کی تربیت کریں اور یہ ساتھی 10 ربیع الاول کو نماز ظہر تک لازماً چناب نگر پہنچ کر رپورٹ کریں ☆ اپنے ارد گرد مشکوک افراد پر نظر رکھیں ☆ موسم کے مطابق چادر وغیرہ ہمراہ رکھیں اور کھانے پینے کی چھوٹی موٹی اشیاء مثلاً پانی کی بوتل پینے، بسکٹ وغیرہ اگر ساتھ رکھیں تو سہولت رہے گی ☆ اپنے قافلے کا امیر مشاورت سے مقرر کریں اور اطاعت امیر کو شعار بنائیں ☆ 12 ربیع الاول کو جلوس کے موقع پر دی جانے والی ہدایات پر مکمل عمل پیرا ہوں دوران جلوس نظم و ضبط قائم رکھیں ہلڈ بازی اور منفی نعرے بازی سے مکمل پرہیز

کریں ☆ معمر اور معذور افراد کو جلوس میں شرکت کرنے کے لیے سواری میں بٹھائیں ☆ 16 دسمبر 2013ء کو چناب نگر میں چناب نگر کانفرنس سے متعلق جو اجلاس ہوا اُس میں اس کانفرنس کے انتظامات کے لیے مرکزی نائب امیر سید محمد کفیل بخاری کو ناظم اجتماع مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مولانا مغیرہ، میاں محمد اولیس، مولانا تنویر الحسن کو نائبین مقرر کیا گیا ہے ☆ چناب نگر مرکز میں اجتماع کے موقع پر جگہ کم پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم آنے والے مہمانوں اور مقررین کا خاطر خواہ اکرام نہیں کر پاتے اس بات کو محسوس نہ کریں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مزید وسیع جگہ عطا فرمائیں (آمین) تاکہ سارے نظام میں آسانی رہے۔ جماعتی وغیر جماعتی احباب کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی توجہ غیر ضروری ملاقاتوں کی بجائے اجتماع پر مرکوز رکھیں اور کام میں بے حد مشغول ذمہ داران کو الجھن میں نہ ڈالیں اس سے نظم بھی خراب ہوتا ہے اور کام کا حرج بھی۔

☆ اجتماع گاہ میں نظم و ضبط کا خیال رکھیں ☆ چناب نگر انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے ان کے ساتھ بدتمیزی سے اجتناب کریں ☆ دوران وقفہ بیانات، سٹاز سے اپنی ضرورت کی اشیاء خریدیں ☆ کانفرنس کے موقع پر کانفرنس کے اخراجات / چناب نگر مرکز / نقیب ختم نبوت یا کسی بھی دوسری مد کے لیے فنڈز کے لیے جگہ اور افراد متعین ہوں گے اس کام کے لیے متعلقہ جگہ پر ہی رقوم جمع کروائیں ☆ کھانے کے لیے ترتیب کے ساتھ جن شہروں کے قافلوں کا اعلان کیا جائے براہ کرم صبر و تحمل کے ساتھ اُسی ترتیب کے ساتھ کھانے کے پنڈال میں تشریف لے جائیں۔ کھانے کے لئے 10 روپے فی کس کا ٹوکن جاری کیا جائے گا قافلے کے امیر اپنی تعداد کے حساب سے ٹوکن حاصل کریں ☆ ہر ماتحت شاخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانچ ہزار روپے (= 10,000) چناب نگر کانفرنس کے اخراجات کی مد میں لازماً بھجوائے یا موقع پر جمع کرائے ☆ پارکنگ کے لیے جو جگہ مختص ہے اُس کو استعمال میں لائیں اور متعلقہ انتظامیہ کی ہدایات پر سختی سے عمل فرمائیں امید ہے کہ آپ ہماری گزارشات کو ہر حال میں مقدم ملحوظ رکھیں گے، شکریہ، والسلام

خمیرہ روشن دماغ

- ★ طلباء، وکلاء، اساتذہ، علماء کرام اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے تحفہ کی مانند ہے
- ★ در دسر، پرانا نزلہ زکام، ریشہ، کیرہ، کھانسی کے لیے یکساں مفید ہے
- ★ ذہنی تھکان، ذہنی پریشانی، وہم، نسیان کو دور کرتا ہے
- ★ عصائی دباؤ، نیند کم آنا میں مفید ہے
- ★ دماغی کمزوری، بینائی کی کمزوری دور اور دل کو قوی کرتا ہے

قیمت = 300

نوٹ: چناب نگر اجتماع پر دستیاب ہوگا

بن قاسم ہریٹل لیبارٹری سی سی آئی کراچی / 0315-6381977

رابطہ